

TRANSLATION - 2018

Lahore city is the archaic (~~antique, ancient~~ ^{ambient}) center, not only of politics, but also of culture. Mughal's culture saw its heyday in this city. This was also the center of Sikh culture. The culture of knowledge and literature also came in the part of this city. This was also the center of Sufism. The author of the famous book of Sufism, *Kashf-al-Mahjub*, Hazrat Ali Hajveri, ^{also known as} the famous (~~famous~~) Hazrat Data Ganj Bakhsh, is also buried in this city. Even during the reign of British, the fashion of Lahore ~~was~~ ^{ed} prevalent all over India. Even after the establishment of Pakistan, the importance of this city did not ~~belegate~~ (~~undersate~~) ^{diminish}.

need improvement

5/10

7. Translate the following Urdu paragraph into English by keeping in view figurative/idiomatic expressions. (10)

لاہور شہر سیاست ہی نہیں ثقافت کا بھی قدیم مرکز ہے۔ مغلوں کی ثقافت نے عروج کا زمانہ اس شہر میں دیکھا۔ سکھ ثقافت کا بھی یہی مرکز تھا۔ علم و ادب کی ثقافت بھی اسی شہر کے حصہ میں آئی۔ اہل تصوف کا بھی یہی مرکز تھا۔ تصوف کی مشہور کتاب کشف المجوب کے مصنف حضرت علی ہجویری المشہور حضرت داتا گنج بخش بھی اسی شہر میں مدفون ہیں۔ انگریزوں کے دور میں بھی لاہور کا فیشن پورے ہندوستان میں رائج ہوتا تھا۔ قیام پاکستان کے بعد بھی اس شہر کی اہمیت کم نہیں ہوئی۔

Page 2 of 2